



61. Inde. nti. t. kwa. mdage hi alojo: rsn. do  
 kiramos  
 62. do pa. tar xi. da. et ur. shi: r vol. ma. kt is  
 63. go la: xe m. i. x wel. ma. go xi: t n. i. k. s. te. go  
 m. i. x  
 64. do kwa. lowa go. n. t. r. a. l. x. ko. ma  
 65. go. d. age vand. a. x n. i. ka. r. to  
 66. e. to. ki u. xi: r hi. os  
 67. konant. l. f. i. s kopot. - e. he. t. st. a. ko  
 68. ti. s. on. a. w. a. r. m. a. n. d. a. x. g. o. w. e. st. - e. n. ti. s  
 on. a. x. t. on. o. v. ant  
 69. da. m. a. n. a. ko. l. a. p. t. - b. a. r. o. v. o. t. s  
 70. do. i. s. m. b. o. r. s. t. i. n. o. k. a. n  
 71. i. x. w. o. u. d. a. t. s. f. a. k. t. o. e. r. on. a. b. r. e. f. b. r. o. x. t  
 72. i. x. a. m. p. i. r. a. n. m. o. n. a. r. t  
 73. i. x. k. a. n. m. e. x. i. n. w. e. r. s. a. m. i. n. s. a. n. l. m. g. u. n  
 74. n. o. s. x. o. f. t. i. t. s. p. r. a. n. o. w. a. t. p. i. e. r. t. i. n. d. o. n. o. c. u  
 k. a. : r  
 75. i. x. h. a. m. w. a. k. o. r. s. m. - a. l. v. a. n. v. p. r. d. o. m. i. d. a. x  
 76. do. k. o. n. v. a. n. d. o. k. f. n. e. i. s. u. c. x. s. o. l. d. o. t. x. o. w. e. s  
 77. w. i. d. a. g. e. g. e. n. o. b. o. x. m. a. k. o. r. w. u. c. n. o  
 78. do. k. u. c. x. o. h. a. m. a. l. a. n. d. o. r. o. s  
 79. i. x. o. l. i. f. o. r. g. i. u. o. r. t. x. a. n  
 80. t. k. i. n. s. a. k. o. w. a. s. d. u. c. t. i. d. a. s. a. t. k. o. s. m.  
 d. u. c. p. o. n  
 81. k. o. n. u. c. r. o. n. e. r. n. k. o. n. u. c. g. o. l. u. c. p. o. n  
 82. k. o. r. d. o. x. t. a. r. k. o. i. s. m. e. t. o. k. i. r. a. f. k. o. n. o. d. o. b. o. s  
 x. o. g. u. n. u. r. m. b. r. o. m. b. e. r. o. t. o. p. l. i. k. o  
 83. do. i. s. m. p. r. o. t. e. u. t. u. l. i. : r  
 84. o. k. e. d. o. k. i. n. s. t. r. o. t. o. p. o  
 85. a. t. f. o. l. o. k. x. o. x. n. i. k. s. a. n. o. r. s. - d. a. n. g. o. e. l. t. e. r. n  
 r. i. g. d. u. r. m  
 86. h. i. n. o. m. u. r. m. t. i. s. d. r. i. j. x. f. a. n. d. o. n. d. o. r. s  
 87. d. e. w. e. x. i. s. k. r. u. m. p. - l. a. n. s. t. o. i. s. t. e. a. n. u. m.  
 w. e. x  
 88. i. x. h. a. m. v. a. r. d. o. k. l. e. i. n. s. a. n. o. n. t. a. u. r. m. a. k. o  
 g. o. k. o. x. t. || i. x. k. o. x. t. ||

89. do. g. e. i. t. o. b. u. r. k. i. s. k. o. p. o. t. x. o. g. u. n. - v. a. n. m.  
 k. o. r. s. t. i. n. t. o. s. l. i. k. o  
 90. k. o. l. e. t. f. o. w. a. s. k. o. a. t. e. r. n. g. o. t  
 91. i. n. o. k. a. l. s. s. x. a. i. i. s. t. e. b. e. s. t. r  
 92. m. o. x. l. a. t. a. r. m. u. r. t. x. o. t. k. l. e. n. o. m. i. k. o  
 93. x. f. k. m. i. n. s. a. n. h. o. t. l. e. s  
 94. i. x. w. i. t. n. i. b. u. d. a. t. e. i. x. o. m. u. r. t. x. o. n. x. f. k. o. n  
 95. o. n. o. k. f. l. o. k. a. l. d. a. r. i. s. x. o. t. f. o. r. o. t. b. e. : r  
 96. i. x. m. u. r. s. s. s. b. l. o. t. d. a. r. i. n. k. o. u. r. m. s. t. a. r. o. k  
 t. o. w. e. : r  
 97. i. x. m. u. t. y. a. s. t. o. t. f. o. r. i. n. d. o. s. t. a. l. d. o. n  
 98. m. o. b. r. a. f. : r. w. a. s. m. a. x  
 99. d. o. m. e. l. o. k. b. o. : r. m. a. k. t. o. n. a. g. r. u. c. t. o. n. t. u. : r  
 100. d. i. b. o. t. a. r. m. e. l. o. k. i. s. d. a. n. e. r. n. k. o. : r. - s. t. o. p. k. o. m  
 d. o. m. e. : t. r. a. l. x  
 101. w. o. k. o. u. d. o. d. e. p. a. t. k. u. r. n. o. v. o. l. d. o. n. o. p. a. n. o. r.  
 102. h. e. i. s. y. s. t. - z. y. s. t. o. f. g. o. t  
 103. o. k. l. a. m. p. n. u. : t. o. n. m. a. n. y. t. o. l. a. i. t  
 104. i. n. s. t. a. l. y. s. k. e. n. d. a. r. b. a. r. o. x. d. e. : i. v. p. : r  
 k. u. : e. s. s  
 105. d. a. r. d. o. d. o. o. p. d. u. c. o  
 106. i. n. b. u. : m. k. a. m. a. x. o. s. t. a. k. x. a. n. d. o. b. r. a. l. x  
 g. o. v. a. r. o  
 107. g. o. m. u. r. t. o. : s. f. f. l. o. n. i. s. k. o. m. a. k. e. : r. o  
 108. h. e. i. s. f. a. n. l. o. v. o. g. o. k. o. m. a. m. e. d. o. n. g. u. i. b. o. : s  
 109. d. i. d. o. r. i. s. f. a. n. b. p. k. o. n. h. o. : t. x. o. m. a. k. t  
 110. o. g. o. t. r. o. u. t. f. r. o. u. m. a. s. m. u. r. t. k. l. e. n. o. n. a. e. : f. o  
 111. i. x. h. e. m. h. i. g. r. a. s. x. o. k. a. i. t. - m. a. t. w. a. s  
 x. e. g. o. t. x. o. t. e  
 112. d. o. b. r. o. c. u. w. a. r. x. e. t. d. a. t. n. o. x. t. o. d. p. r. i. s  
 v. a. r. t. o. b. o. : w. a  
 113. b. a. k. o. - i. g. b. a. k. - g. e. b. a. k. t. - h. e. b. a. k. t. - b. a. k. t. a. r.  
 v. e. b. a. k. o. n. - i. x. b. a. g. d. o. - g. e. b. a. g. d. o. - h. e. b. a. g. d. o.  
 v. e. b. a. g. d. o. - v. e. h. a. m. a. g. o. b. a. k. o  
 114. b. e. j. o. - i. g. b. e. i. - g. e. b. e. i. t. - h. e. b. e. i. t. - v. e. b. e. j. o.  
 b. e. j. o. v. e. - i. g. b. o. i. - i. x. h. a. m. g. o. b. o. j. o. - l. o. j. o  
 h. i. u. c. x



De naam van deze plaats in haar eigen dialect is ka<sup>u</sup>wald

De inwoners heten: kaulxlor mins

Een bijnaam kennen ze niet.

Aantal inwoners op 31 Dec. 1947: 1893.

taaltoestand. De voornaamste wijken zijn: t. n. r. p. - do R. a. k. - do R. e. i. t. - do wentor di. k. th. st. i. - Er zijn geen locale verschillen. Er wordt noch Frans, noch A. B. gesproken.

De meeste inwoners zijn landbouwers en werklieden, meermal mijnwerkers die te Eiden of te Genk werken.

Locale nijverheid: buskruitfabriek.

Zegslieden: 1. Sevens, Bathieu; 50 j.; hier geb.; handelaar; heeft hier altijd verbleven; V. van Abillegem, 16. van Kaulille; spreekt altijd dialect.

1. Sevens, Leo; 22 j.; hier geb.; onderwijzer; heeft hier altijd verbleven; V. en 16. van Kaulille; spreekt altijd dialect.